

65649 - فضائل اعمال حقوق العباد کا کفارہ نہیں بنتے

سوال

میں نے سنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: " جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں "

کیا اس میں مسلمان شخص کے وہ گناہ بھی شامل ہیں جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کو جان بوجھ کر غصب کیا ہے، اور اب اس پر بہت زیادہ نادم ہے، لیکن وہ ان کے سامنے ان کا اعتراف کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ اس سے بہت ساری مشکلات پیدا ہونگی ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

گناہوں کو ختم اور ان کا کفارہ بننے والی اشیاء تو بہت ساری ہیں: جن میں توبہ و استغفار، اور اطاعت و فرمانبرداری، اور حد والے گناہ کا مرتکب ہونے والے پر حد کا قائم کرنا، وغیرہ ذالک.

اور فضائل اعمال مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ جمہور علماء کرام کے ہاں یہ اعمال تو صرف صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ کا کفارہ بنتے ہیں.

اور حقوق العباد کے متعلقہ معاصی اور حقوق کے بارہ میں گزارش یہ ہے کہ: یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور اس سے توبہ کی شروط میں حقوق کا حقداروں کو واپس کرنا شامل ہے.

امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" شہید کو قرض کے علاوہ باقی سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں "

صحیح مسلم حدیث نمبر (1886).

شرح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان: "قرض کے علاوہ"

اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ آدمیوں کے سارے حقوق کو شہادت اور جہاد اور دوسرے فضیلت والے اعمال معاف نہیں کرواتے اور ان کا کفارہ نہیں بنتے، بلکہ حقوق اللہ کا کفارہ بنتے ہیں۔ انتہی

اور ابن مفلح "الفروع" میں کہتے ہیں:

اور شہادت قرض کے علاوہ گناہ معاف کرواتا ہے، ہمارے شیخ کہتے ہیں (یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ) اور قرض کے علاوہ بندوں کے دوسرے حقوق مثلاً قتل اور ظلم وغیرہ بھی۔ انتہی

دیکھیں: الفروع (6 / 193)۔

اور الموسوعة الفقهية میں ہے:

"توبہ ندامت کے معنی میں ہے کہ جو کچھ ہو چکا اس پر ندامت اور آئندہ ایسا فعل نہ کرنے کے عزم کا نام توبہ ہے، اور یہ حقوق العباد کو ساقط کرنے کے لیے کافی نہیں، لہذا جس شخص نے کسی کا مال چوری کیا، یا مال غصب کیا، یا کسی اور طریقہ سے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تو صرف ندامت اور اس فعل کو چھوڑ دینے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرنے سے ہی اس گناہ سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان مظلوموں کے حقوق واپس کرنا ضروری ہیں، اور فقہاء کے ہاں یہی اصل اور متفق علیہ مسئلہ ہے" انتہی۔

یہ تو ان حقوق کے متعلق تھا جو مادی ہیں، مثلاً غصب کردہ مال، یا حیلہ وغیرہ کر کے حاصل کردہ، لیکن معنوی حقوق مثلاً بہتان، غیبت، وغیرہ ہوں تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اگر مظلوم کو اس ظلم کا علم ہو چکا ہو تو مظلوم سے معذرت اور معافی ضرور مانگنا ہوگی، اور اگر مظلوم کے علم میں یہ ظلم نہ آیا ہو تو اسے بتانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے لیے اس کے لیے استغفار کرے، کیونکہ اسے بتانا نفرت کا سبب اور باعث بنے گا اور ان دونوں کے مابین عداوت و دشمنی اور بغض پیدا ہوگا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

"صحیح حدیث میں ہے کہ:

"جس کسی کے پاس بھی اپنے کسی بھائی کا خون میں یا مال میں عزت میں حق ہے تو وہ اس حق سے وہ دن آنے سے قبل ہی بری ہو جائے اور اسے ادا کر دے، جس دن میں نہ کوئی درہم ہو گا اور نہ دینار، صرف نیکیاں اور برائیاں ہونگی، اگر اس کے پاس نیکیاں ہونگی تو صحیح وگرنہ صاحب حق کی برائیاں لے کر ظالم پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا" او کما قال۔

اور یہ تو اس کے متعلق ہے جس کا مظلوم کو علم ہو چکا ہو، لیکن اگر اس نے کسی کی غیبت کی ہو، یا اس پر بہتان لگایا ہو اور مظلوم کو اس کا علم نہ ہو تو اس سے توبہ کی شرط میں ایک قول یہ ہے کہ اس کے علم میں لایا جائے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: یہ شرط نہیں۔

یہ اکثر کا قول ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے دو روایتیں ہیں، لیکن اس کا قول اس طرح کے مسئلہ میں یہ ہے کہ اس مظلوم کے ساتھ نیکی کرے مثلاً اس کے لیے دعا اور استغفار اور اعمال صالحہ صدقہ کر کے اس کا ثواب اسے ہدیہ کرے، جو اس کی غیبت اور بہتان کے قائم مقام ہونگے۔

حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے آپ استغفار کی دعا کریں۔ انتہی

دیکھیں: مجموع الفتاویٰ (18 / 189)۔

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام نے ایسے شخص کے بارہ میں کہا ہے جس نے کسی بندے کا مال چور کیا ہو:

اگر تو اسے اس آدمی کا علم ہو یا پھر وہ اسے جاننے والے شخص کو جانتا ہو، تو اس شخص پر متعین ہے کہ وہ اسے نقدی یا چاندی یا اس کے برابر قیمت یا جس پر اس کے ساتھ اتفاق ہو جائے اسے ادا کرے۔

اور اگر وہ اس شخص کو نہیں جانتا، اور اسے کے حصول سے بھی ناامید ہو چکا ہے تو پھر اس کی جانب سے وہ نقدی وغیرہ یا چاندی صدقہ کر دے، اور اگر اسے صدقہ کرنے کے بعد مالک کا علم ہو جائے تو اسے صدقہ کرنے کی خبر دے، اگر تو وہ اس کی اجازت دے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ اس کے تصرف میں اعتراض کرتا ہوا اپنی رقم اور حق کا مطالبہ کرے تو وہ اسے واپس کرنے کا ضامن ہے، اور کیا ہوا صدقہ اس کی اپنی جانب سے ہو گا، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرے، اور مالک کے لیے دعا کرے "

دیکھیں: فتاویٰ اسلامیة (4 / 165)۔

واللہ اعلم .